

NYC

CENSUS 2020

سٹی آف نیو یارک کی طرف سے رسمی اطلاع نامہ

امریکی مردم شماری بیورو (United States Census Bureau) کے ملازمین (اینومریٹرز یعنی شمار کنندگان) فی الحال نیو یارک شہر میں گھر گھر جا کر مردم شماری کا کام مکمل کر رہے ہیں۔

امریکی مردم شماری میں شرکت وفاقی قانون (عنوان 13، باب 7، ذیلی باب III) کے تحت لازمی ہے۔ اس قانون کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے، ضروری ہے کہ مکان مالکان اور بلڈنگ مینیجرز مردم شماری کے اینومریٹرز کو رسائی فراہم کریں۔

بلڈنگ میں رسائی کے لیے ذمہ دار تمام اسٹاف کو مردم شماری بیورو کے موجودہ آپریشن کی اطلاع کر دینا چاہیے۔

2020 مردم شماری اس سال موسم بہار میں شروع کی گئی۔ مردم شماری میں ریاستہائے متحدہ امریکہ میں مقیم سبھی لوگوں کا ایک رسمی شمار انجام دیا جاتا ہے جو کہ ہر 10 سالوں پر ایک بار ہوتا ہے اور جو کہ ریاستہائے متحدہ کے دستور کے تحت لازمی ہے۔ تبھی سے ملک بھر کے گھرانوں نے مردم شماری کو از خود آن لائن یا بذریعہ فون مکمل کرنا شروع کر دیا۔

تاہم، سبھی گھرانے خود سے مردم شماری مکمل نہیں کرتے ہیں۔ اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے، امریکی مردم شماری بیورو نان-رہسپانس فالو اپ (Non-Response Follow Up, NRFU) آپریشن انجام دیتا ہے جس میں اینومریٹرز گھر گھر جا کر لوگوں سے مردم شماری کی معلومات اکٹھا کرتے ہیں۔ مردم شماری کے اینومریٹرز نے 6 اگست سے پورے شہر میں گھر گھر جانا شروع کر دیا ہے اور وہ 30 ستمبر 2020 تک یہ عمل جاری رکھیں گے۔

NRFU کے بارے میں اہم حقائق:

- ممکن ہونے کی صورت میں، اینومریٹرز انٹرویو انجام دینے سے پہلے پراپرٹی مینیجرز سے رابطہ کریں گے۔ براہ کرم جان لیں کہ یہ ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔
- تمام اینومریٹرز کے بیک گراؤنڈ کی اچھی طرح جانچ کر لی گئی ہے اور ان کے فننگر پرنٹس لے لیے گئے ہیں، اور انہیں امریکی ڈیپارٹمنٹ آف کامرس (Department of Commerce) نے کام کرنے کے لیے سند عطا کی ہوئی ہے۔
- تمام اینومریٹرز کے پاس ایک باتصویر شناختی بلا ہوگا جس پر امریکی ڈیپارٹمنٹ آف کامرس کا واٹر مارک اور منسوخی کی تاریخ درج ہوگی۔ اس کے علاوہ، تمام اینومریٹرز ایک بیگ لے کر چلیں گے جس پر امریکی مردم شماری بیورو کا لوگو ہوگا؛ اس کے علاوہ ان کے پاس جو بھی آلات ہوں گے ان پر بیورو کا لوگو چھپا ہوگا۔
- اگر اس شخص کی شناخت کے بارے میں آپ کے پاس یا کرایہ داروں کے پاس سوالات ہوں تو آپ 7100-882-212 پر مردم شماری بیورو کے نمائندہ سے بات کر کے ان کی ملازمت کی تصدیق کر سکتے ہیں۔
- تمام اینومریٹرز نے سوشل ڈسٹنسنگ سے متعلق ایک ٹریننگ مکمل کی ہے۔ ان کے لیے ہم وقت فیس ماسک پہننے رہنا، گھروں میں کسی صورت داخل نہ ہونا، اور انٹرویو کی انجام دہی کے دوران 6 فٹ کی دوری برقرار رکھنا لازمی ہے۔
- اگر کوئی مکین گھر پر نہیں ہے تو اینومریٹرز دروازے پر ایک نوٹ چھوڑ جائیں گے جس میں اس بابت معلومات ہوں گی کہ مردم شماری کس طرح مکمل کرنا ہے۔
- کسی گھرانے کے ذریعہ مردم شماری مکمل کر لینے کے بعد، ڈیٹا کی کوالٹی کو یقینی بنانے کے لیے اضافی ملاقاتوں کی جا سکتی ہیں۔

اگر مکین جواب نہیں دیتے ہیں تو بلڈنگ اسٹاف سے اس یونٹ میں رہ رہے مکینوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کو کہا جا سکتا ہے۔ اس معاملے میں اسٹاف کے تعاون کی پرزور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

کچھ سوالات یا تشویشات کی صورت میں برائے مہربانی NYC سینسس کو (347) 1095-698 پر کال کریں۔